



سوال

(975) مسافر کتنے دن تک قصر کر سکتا ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مسافر کتنے دن تک قصر کر سکتا ہے؟ اور قصر، سفر کا ارادہ کرتے ہی یعنی گھر سے نکلنے کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے یا اس کی کوئی حد ہے کہ اتنے میل سے شروع ہوگی؟ کتنے دن تک سفر میں قصر کر سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتادیں نوازش ہوگی۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مسافر جب کسی جگہ چار دن سے زیادہ ٹھہرنے کا عزم رکھتا ہو تو نماز پوری پڑھے۔ جمہور اہل علم کا یہی مسلک ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ "حجۃ الوداع" کے موقع پر ۳ ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آٹھ کو منیٰ کی طرف روانہ ہوئے اور ان ایام میں آپ دو گانہ پڑھتے رہے۔ یہ قیام نیت اور عزم و جزم کے ساتھ طے شدہ تھا۔ اس سے کم قیام کی صورت میں قصر کرنا افضل ہے، اگر پوری نماز پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں۔

اگر کسی نے لمبے سفر پر جانا ہو تو اپنی رہائشی حدود سے نکل کر دو گانہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کی بناء پر۔ اگر کسی نے نو کوس کی مسافت تک جانا ہو تو وہ قصر کر سکتا ہے۔ اس حدیث میں اگرچہ تین کوس اور نو کوس شک کے ساتھ آیا ہے، لیکن احتیاطاً نو کوس پر نماز دو گانہ پڑھنی چاہیے۔ کیونکہ نو کوس میں تین کوس آ جاتے ہیں۔

مسافر کی مستقل طور پر اگر کسی جگہ ٹھہرنے کی نیت نہ ہو تو کسی حد بندی کے بغیر قصر ہو سکتی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ مسافر جب تک اقامت کی پہنچتے نیت نہ کرے۔ قصر کر سکتا ہے، خواہ کئی سال گزر جائیں۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدنی

کتاب الصلوٰۃ: صفحہ: 793



محدث فتویٰ